


99 فیصد 10 سے 29 سال عمر کے افراد چاقو نہیں رکھتے۔۔۔



چاقو لے کر چلنے سے آپ کو چاقو لگنے یا اس سے زخمی ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

خطرہ حقیقی ہے

آپ کا چاقو آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔

وقت آ گیا ہے کہ #چاقو چھوڑیں (#DITCHTHEBLADE) اور #چاقو سے پاک (#KNIFEFREE) زندگی اپنائیں۔

دیکھیں: www.knifefree.co.uk مدد اور مشورے کے لیے

#چاقو

چھوڑیں۔